

فلیمون کے نام پولس کا خط

1 خداوند المسیح یسوع کی خاطر قیدی پولس اور ہمارے بھائی تیمتھیس کی جانب سے،*

ہمارے عزیز ہم خدمت فلیمون،² اور بہن افیہ، اور بھائی ارخپس جو ہم فوجی ہے اور اُس جماعت کے نام خط جو فلیمون کے گھر میں جمع ہوتی ہے۔

3 ہمارے خدا باپ اور خداوند یسوع المسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔

دعا اور شکر گزاری

4 اپنی دعاؤں میں مجھے یاد کرتے ہوئے میں ہمیشہ اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں،

5 کیونکہ میں سنتا ہوں کہ تم خدا کے سب مقدسین سے محبت رکھتے ہو اور تمہارا ایمان خداوند یسوع پر ہے۔

6 میری دعا ہے کہ کاش ایمان میں ہمارے ساتھ تمہاری شراکت المسیح کی خاطر ہماری طرف سے تقسیم کی جانے والی ہر اچھی چیز کے بارے میں تمہاری سمجھ کو گہرا اور مؤثر کرے۔

* 1:1 حضرت پولس نے ہی اس خط کو لکھا تھا۔ اور سلوانس اور تیمتھیس صرف آداب و تسلیمات میں حضرت پولس کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔

7 اے بھائی! مجھے تیری محبت سے بہت خوشی اور تسلی ہوئی ہے کیونکہ تُو نے مقدسین کے دلوں کو تازہ کیا ہے۔

اُنِسْمُسَ کے لیے پَوُلُسَ کی التجا

8 پس اگرچہ المسیح میں مجھے تمہیں یہ حکم دینے کا اختیار ہے کہ تجھے کیا کرنا چاہئے،

9 لیکن پھر بھی میں بُورُھا پَوُلُسَ جو اس وقت خُداوند المسیح یسوع کی خاطر قیدی ہوں اور محبت کے ساتھ تُم سے درخواست کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔

10 لہذا میں اپنے بیٹے اُنِسْمُسَ[†] کے لیے تُم سے عرض کرتا ہوں جو میرے قید کے دوران المسیح پر ایمان لانے سے گویا میرا روحانی بیٹا بن گیا ہے۔

11 پہلے تو وہ تمہارے کسی کام کا نہ تھا لیکن اب وہ تیرے اور میرے دونوں کے لیے بڑے کام کا ہے۔

12 اب میں اُسے یعنی اپنے نَحْتِ جِگر کو تیرے پاس واپس بھیج رہا ہوں۔

13 حالانکہ اُسے میں اپنے ہی پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ تمہاری جگہ پر اس قید میں جو خوشخبری سنانے کی خاطر ہے، میری خدمت کرے۔

14 لیکن تیری رضامندی کے بغیر میں کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، تاکہ جو بھی مہربانی تو کرے وہ مجبوری میں نہیں لیکن اپنی مرضی سے کرے۔

† 1:10 اُنِسْمُسَ معنی مفید ہے۔

15 شاید اُنِیسمُسؔ تجھ سے تھوڑی دیر کے واسطے اِس لَئے جُدا ہوا تھا تاکہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔

16 مگر اَب سے غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بہتر یعنی ایک عزیز بھائی کی طرح سلوک کرنا، جو ایک ساتھی مومن کے طور پر مجھے نہایت عزیز ہو اور مجھ سے بھی زیادہ خُداوند میں اور ایک بھائی کے طور پر تجھے عزیز ہو۔

17 پس اگر تُم مجھے اپنا ساتھی سمجھتا ہو تو اُنِیسمُسؔ کو بھی ویسے ہی قبول کرنا جیسے تُم مجھے کرتے ہو۔

18 اور اگر اُس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا اُس پر تیرا کچھ قرض ہے تو اُسے میرے نام لکھ لینا۔

19 میں پولُسؔ اپنے ہاتھ سے یہ لکھتا ہوں کہ تجھے ادا کر دوں گا۔ یہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میرا قرض جو تجھ پر ہے وہ تُم خود ہی ہو۔

20 اے بھائی! میں چاہتا ہوں کہ مجھے تیری طرف سے خُداوند میں مدد حاصل ہو، اور المسیح میں میرے دل کو تازگی ملے۔

21 تیری فرمانبرداری پر یقین کر کے تجھے لکھ رہا ہوں۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں، تُم اُس سے بھی زیادہ کرو گے۔

22 اِس کے علاوہ میرے قیام کے لَئے مہمان خانہ تیار رکھنا کیونکہ مجھے اُمید ہے کہ تُم لوگوں کی دعاؤں کے جواب میں خُدا مجھے قید سے آزاد کر تمہارے درمیان پہنچا دے گا۔

23 اِنِفراسَ جو المِسیحِ یَسوعَ میں میرا ساتھی قیدی تُمہیں سلام
کہتا ہے۔

24 اور مرقُس، اِرسِترخُس، دِیماسَ اور لُوقا جو میرے ہم خدمت
ہیں، تُمہیں سلام کہتے ہیں۔

25 خُداوندِ یَسوعَ المِسیحِ کا فضل تمہاری سب کی رُوح کے ساتھ ہوتا
رہے۔ آمین۔

ترجمہ عصر ہم اردو آزادانہ Biblica®

Urdu: Biblica® (Bible) ترجمہ عصر ہم اردو آزادانہ

copyright © 1999, 2005, 2022, 2024 Biblica, Inc.

Language: اردو

Contributor: Biblica, Inc.

Biblica® Open Urdu Contemporary Version™

© 1999, 2005, 2022, 2024 Biblica, Inc. اشاعت حق

Biblica® Open Urdu Contemporary Version™

Copyright © 1999, 2005, 2022, 2024 by Biblica, Inc.

Creative Commons License

This work is made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. You have permission to copy and distribute this Work, as long as you do not change it and you keep the title as it is. Changing or translating this Work will create a derivative work. When you publish this derivative work, you must list what changes you have made where people can see them, such as on a website. You must also show where the original Work is from: "The original Work by its copyright holders is available for free at www.biblica.com and open.bible."

Notice of copyright must appear on the title or copyright page of the work as follows:

Biblica® Open Urdu Contemporary Version™

© 1999, 2005, 2022, 2024 Biblica, Inc. اشاعت حق

Biblica® Open Urdu Contemporary Version™

Copyright © 1999, 2005, 2022, 2024 by Biblica, Inc.

"Biblica" کے ذریعہ تجارتی رجسٹرڈ اور سند کی حقوق کے متعلقہ ہائے ریاست اور "Biblica Inc جاتا ہے۔ کیا اسے استعمال ساتھ کے اجازت وہ ہیں۔ درج میں دفتر نشان

"Biblica" is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

You must also make your derivative work available under the same license (CC BY-SA).

If you would like to notify Biblica, Inc. regarding your translation of this work, please contact us at <https://open.bible/#feedback>.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

- You include the above copyright and source information.

- If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

- If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2025-05-22

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 26 Jul 2025 from source files dated 22 May 2025

aaa4055b-8d53-58be-87e4-9408c7c9218f